

اسراف و تبذیر کے معنی کی تحقیق

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ اسراف کا حکم کیا ہے اور قرآن میں ہے کہ مبدّرین شیطان کے بھائی ہیں مبدّر اور مسرف کسے کہتے ہیں؟ مزید اسراف کی تعریف کیا ہے۔
سائل: عدنان فرام انگلینڈ

بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

اسراف کی دو صورتیں ہیں جو ناجائز و گناہ ہے ایک یہ کہ مال کاکسی گناہ میں استعمال کرنا دوسرا بیکار محض مال ضائع کرنا جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہلسنت فتاویٰ رضویہ ج 2-1 ص 940 میں فرماتے ہیں کہ معاصی میں صرف [خرچ کرنا] معصیت ہونا تو بدیہی ہے زید نے سونے چاندی کے کڑے اپنے ہاتھوں میں ڈالے یہ اسراف ہوا کہ فعل خود گناہ ہے اگرچہ تھوڑی دیر پہننے سے کڑے خرچ نہ ہو جائیں گے اور بلا وجہ محض اپنی جیب میں ڈالے پھرتا ہے تو اسراف نہیں کہ نہ فعل گناہ ہے نہ مال ضائع ہوا اور اگر دریا میں پھینک دیے تو اسراف ہوا کہ مال کی اضعاء ہوئی اور اضعاء کی ممانعت پر حدیث صحیح ناطق صحیح بخاری وصحیح مسلم میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ تعالیٰ کرہ لکم قیل وقال وکثرة السؤال واضاعة المال "بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لئے مکروہ رکھتا ہے فضول بک بک اور سوال کی کثرت اور مال کی اضعاء۔

(صحیح البخاری کتاب فی الاستقراض الخ باب ما ینہی عن اضعاء المال ۱/ ۳۲۴)

(صحیح مسلم کتاب الاقضية باب نہی عن کثرة المسائل الخ ۲/ ۷۵)

سیدی اعلیٰ حضرت اسراف کا حکم بیان کرتے ہوئے فتاویٰ رضویہ ج 2-1 ص 926 فرماتے ہیں کہ اسراف بلاشبہ ممنوع و ناجائز ہے۔

کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (۱۴۱) اور بے

جا نہ خرچو بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں [الانعام: 141]

اور فرماتا ہے كَمْ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (۲۶) اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيْطَانِ اور [مال] فضول نہ اڑا بیشک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ [سورة

بنی اسرائیل: 26-27]

اور مبدّر اور مسرف کے حوالے سے دو اقوال ہیں کہ ایک یہ کہ دونوں کا ایک ہی معنی ہے کوئی چیز ناحق صرف کرنا یعنی جہاں خرچ کی وہاں حق و صحیح یہی تھا کہ نہ خرچ کی جائے بعض علماء کرام نے کہا کہ مبدّر وہ ہے جو مال گناہ میں

خرچ کر کے اسراف کرتا ہے اور مسرف مطلق اسراف کرنے والا خواہ وہ گناہ میں مال خرچ کر کرے یا عبث کام میں مال ضائع کر کے کرے پہلا قول قوی ہے۔ اسراف کی تعریف میں متعدد اقوال ہیں:

[1]: اسراف غیر حق میں صرف کرنا ہے۔ یہ تعریف سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔

عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال التبذیر فی غیر الحق وهو الاسراف "حضرات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تبذیر غیر حق میں صرف کرنا ہے اور یہی اسراف بھی ہے۔

(جامع البیان (تفسیر ابن جریر) تحت الآية ۱۷/۲۶ دار احیاء التراث العربی بیروت ۸۵/۱۵)
[2]: حکم الہی کی حد سے بڑھنا یعنی جس خرچ میں بندہ امر الہی سے تجاوز کر جائے وہ اسراف ہے۔ یہ تعریف ایاس بن معویہ بن قرہ تابعی ابن تابعی ابن صحابی کی ہے۔

(جامع البیان (تفسیر ابن جریر) تحت الآية ۶/۱۴۱ دار احیاء التراث العربی بیروت ۸/۷۴)
[3]: اسراف ایسی بات میں خرچ کرنا ہے جو شرع مطہر کے خلاف ہو کہ یہ حرام ہے یا ایسی بات میں خرچ کرنا جو مروت کے خلاف ہو اور یہ مکروہ تنزیہی ہے جیسا کہ طریقہ محمدیہ میں ہے: "وہما ای الاسراف والتبذیر فی مخالفة الشرع حرامان وفی مخالفة المروءة مکروہان تنزیہا" اسراف و تبذیر شریعت کی مخالف میں ہوں تو حرام ہیں اور مروت کی مخالف میں ہوں تو مکروہ تنزیہی ہیں۔

[طریقہ محمدیہ السابع والعشرون الاسراف والتبذیر مکتبہ حنفیہ کوئٹہ ۱/۱۵ و ۱۶/ماخوذ از فتاویٰ رضویہ]
اس کے علاوہ اسراف کی اور بھی تعریفات ہیں مگر سیدی اعلیٰ حضرت فتاویٰ رضویہ شریف میں پہلی تعریف کی تحسین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمام تعریفات میں سب سے جامع و مانع و واضح تر تعریف اول ہے اور کیوں نہ ہو کہ یہ اُس عبداللہ کی تعریف ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کی گٹھری فرماتے اور جو خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بعد تمام جہان سے علم میں زائد ہے اور ابو حنیفہ جیسے امام الائمہ کا مورث علم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہ وعنہم اجمعین۔

[فتاویٰ رضویہ ج 1-2 ص 938]

واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

THE ISLAMIC PERSPECTIVE ON WASTAGE

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

Question:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: what is the ruling upon *israf* (wastage)? The Qur'an states that *mubadhdhirin* (spendthrifts) are the brothers of Satan. What are the definitions of a *mubadhdhir* and a *musrif* (waster)? Furthermore, what is the definition of *israf*?

Questioner: Adnan, UK

Answer:

بسم الله الرحمن الرحيم
الجواب بِعَوْنِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ اللَّهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

There are two scenarios in which *israf* is prohibited and a sin. The first is spending wealth upon a sin. The second is simply wasting wealth.

Imam Ahmad Rida Khan (may Allah be pleased with him) states in Fatawa Ridawiyah, "Spending wealth for disobedience is disobedience itself. Zayd's wearing of golden and silver bangles in his hands is wastage and sin, even if he wore them for a short period of time. If he carries the bangles in his pocket without any reason, then it is not a sin. Neither is it an act of sin nor is it wastage of wealth. If he throws away the bangles in the sea, then it is *israf*, as wealth is wasted. There are authentic hadith of the Messenger of Allah ﷺ that prohibit the wastage of wealth. Sayyiduna Mugirah b. Shu'bah (may Allah ﷻ be pleased with him) narrates that the Messenger of Allah ﷺ said,

ان الله تعالى كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال

'Verily Allah ﷻ dislikes that you become involved in vain talk, pose excessive questions, and waste wealth.'

[Narrated by Bukhari and Muslim]

Imam Ahmad Rida Khan (may Allah ﷻ be pleased with him) states in Fatawa Ridawiyah, "*Israf* is undoubtedly prohibited. Allah ﷻ says, 'Do not be wasteful: Allah does not like wasteful people' (Surah al-An'am, 141), and 'Do not squander

your wealth wastefully: those who squander are the brothers of Satan' (Surah Bani Isra'il, 26-27)"

There are two opinions concerning *mubadhdhir* and *musrif*. The first one is that both are one and the same. Spending or utilising something unnecessarily, whereas doing so was not required. Certain scholars have said that a *mubadhdhir* is one who does *israf* by squandering wealth in sinning, and a *musrif* is one who wastes either by way of sinning or by simply squandering wealth. The first opinion is the stronger one.

There are various statements defining *israf*.

1. *Israf* is spending unnecessarily. This definition was provided by Sayyiduna 'Abd Allah b. Mas'ud (may Allah ﷺ be pleased with him). He stated,

عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال التبذير فى غير الحق وهو الاسراف

"Tabdhir (squandering) means to spend unnecessarily and this itself is *israf*."

[Tafsir Tabari, vol. 15, pg. 85]

2. Transgressing the commandment of Allah ﷻ i.e. the spending in which someone exceeds the limits set by the commandment of Allah ﷻ is *israf*. This definition was provided by Sayyiduna Iyas b. Mu'awiyah (may Allah ﷺ be pleased with him).

[Tafsir Tabari, vol. 8, pg. 74]

3. *Israf* means spending in those things which are against the pristine Sacred Law. This is haram (prohibited). It can also mean the spending which goes against generosity. This is *makruh tanzih* (disliked but not sin). It is mentioned in al-Tariqah al-Muhammadiyah,

وهماى الاسراف والتبذير فى مخالفة الشرع حرامان وفى مخالفة المروءة مكروهان تنزيها

"If *israf* or *tabdhir* is in opposition to the Sharia, then it is haram, otherwise it is *makruh tanzih*."

[al-Tariqah al-Muhammadiyah, vol. 1, pg. 15-16, excerpted from Fatawa Ridawiyyyah]

There are other definitions of *israf* but Imam Ahmad Rida (may Allah ﷺ be pleased with him) has preferred the first one and stated in Fatawa Ridawiyyah, “Among all the definitions, the first one is the most comprehensive and clear one. How can it not be so, when it was provided by the ‘Abd Allah (slave of Allah ﷺ) who was called the sack of knowledge? He was the most knowledgeable after the four rightly-guided caliphs. The Greatest Imam, Abu Hanifah is his heir in knowledge. May Allah ﷺ be pleased with them all.”

[Fatawa Ridawiyyah, vol. 1-2, pg. 938]

والله تعالى اعلم ورسوله اعلم صلى الله عليه وآله وسلم
كتبه ابو الحسن محمد قاسم ضياء قادري

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by the SeekersPath Team